

برائے فوری اجراء

برامپٹن نے تجدید شدہ انوائرنمنٹل ماسٹر پلان کا اجراء کر دیا

**پلان میں برامپٹن میں استحکامیت اور موسمیاتی تبدیلی کے لیے  
تقریباً 60 انتہائی اثر پذیر اقدامات شامل ہیں۔**

برامپٹن، آن (25 مارچ 2021) – 24 مارچ کو، برامپٹن سٹی کونسل نے متفقہ طور پر برامپٹن گرو گرین انوائرنمنٹل ماسٹر پلان (EMP) کی تجدید کی منظوری دے دی، جو ایک ماحول دوست شہر ہونے کے ہمارے عزم کو فروغ دیتا ہے۔

اس انتہائی اہم دستاویز کی تجدید سٹی آف برامپٹن کی ماحولیاتی کامیابیوں اور پہلی مرتبہ 2014 میں EMP کے اجراء کے بعد ماحولیاتی ترجیحات میں تبدیلی پر روشنی ڈالتی ہے اور ان اہداف کو آگے بڑھانے کے لیے ایک تازہ کردہ ایکشن پلان فراہم کرتی ہے۔ اس ایکشن پلان میں 60 انتہائی اثر پذیر اقدامات شامل ہیں، جو اگلی پوری دہائی کے دوران ایک زیادہ ماحول دوست شہر کے لیے راستے کا خاکہ پیش کرتے ہیں اور برامپٹن کو ایک صحت مند، لچکدار اور ماحولیاتی طور پر قابل استحکام کمیونٹی کے طور پر بڑھائیں گے۔

ان اقدامات میں کمیونٹی گارٹنز پروگرام کو بڑھانا، ایک بی سٹی کے تعین کی کوشش، ایک کلانیمٹ چینج ایڈاپشن پلان کی تشکیل اور سٹی کی سہولت گاہوں میں پانی کے مؤثر استعمال کی حکمت عملیوں کی تیاری شامل ہے۔

پہلے سے جاری بنیادی کام پر مزید کام کرتے ہوئے، سٹی اور اس کے شراکت دار رہائشیوں، کاروباروں اور کمیونٹی کی تنظیموں کو تعلیم فراہم کرنا، جوش دلانا اور تقویت دینا جاری رکھیں گے، تاکہ وہ ماحولیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی استحکام پر اقدامات لے سکیں۔

### پس منظر

برامپٹن گرو گرین EMP اندرونی طور پر اور کمیونٹی میں ماحولیاتی استحکامیت کو بہتر بنانے کے لیے سٹی کا بلیو پرنٹ ہے۔ پہلی مرتبہ 2014 میں جاری ہونے والا، EMP ایک نظریے کا خاکہ پیش کرتا ہے، جو ایک زیادہ قابل استحکام مستقبل کے لیے اصولوں، اہداف اور اقدامات اور ترقی کو بڑھانے اور جانچنے کے لیے کارکردگی کی پیمائشوں اور اہداف کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔

EMP نے سٹی کے کئی منصوبوں، پالیسیوں، پراجیکٹس اور عمل کاموں کے لیے محرک کا کام کیا، جو برامپٹن کی ماحولیاتی کارکردگی اور معیار زندگی کو بہتر کر رہے ہیں اور سٹی کو گریٹر ٹورانٹو اور ہیملٹن ایریا میں ماحولیاتی قائد بننے میں مددگار رہے ہیں۔

### اقتباسات

"برامپٹن سٹی کونسل نے متفقہ طور پر نیا برامپٹن گرو گرین انوائرنمنٹل ماسٹر پلان منظور کر لیا ہے۔ برامپٹن ایک ماحول دوست شہر ہے اور ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں کہ کونسل کے اس دور کی اس ترجیح کی ہمارے ہر عمل میں عکاسی ہو۔ یہ تجدید شدہ پلان ایک کلیدی دستاویز ہے، جو حکمت عملی کے تحت اگلی دہائی کے دوران برامپٹن میں استحکامیت کو بڑھائے گی۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"ہمیں نیا برامپٹن گرو گرین انوائرنمنٹل ماسٹر پلان جاری کرنے پر فخر ہے۔ یہ برامپٹن کے لیے ایک زیادہ قابل استحکام مستقبل یقینی بنانے کے لیے عمل پر مبنی ایک منصوبہ ہے، جو اپنے 60 انتہائی اثر پذیر اقدامات میں ایک کاروباری (سٹی) اور ایک کمیونٹی نقطہ نظر شامل کرتا ہے۔ میں تمام لوگوں کو اس نئے منصوبے کو ملاحظہ کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔"

- پال ویسیٹی، چیئر، پبلک ورکس اینڈ انجینئرنگ؛ ریجنل کونسلر، وارڈز 1 اور 5، سٹی آف برامپٹن

"ہم برامپٹن میں گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو 2050 تک 80 فیصد کم کرنے کے سفر پر ہیں اور یہ تجدید شدہ برامپٹن گرو گرین انوائرنمنٹل ماسٹر پلان اس مقصد میں مدد فراہم کرے گا۔ ہمارے پاس کمیونٹی میں حقیقی تبدیلی پیدا کرنے اور ایک بہتر مستقبل تعمیر کرنے کے لیے با اثر منصوبے موجود ہیں۔"

- ڈوگ ویلیز، سٹی کونسلر، وارڈز 2 اور 6؛ ممبر، انوائرنمنٹ ایڈوائزری کمیٹی؛ ممبر، CEERP کمیونٹی ٹاسک فورس، سٹی آف برامپٹن

"سٹی کا عملہ تجدید شدہ برامپٹن گرو گرین انوائرنمنٹل ماسٹر پلان کے ذریعے ایک قابل استحکام تبدیلی پیدا کرنے کے لیے پر عزم ہے۔ ہم اس اہم منصوبہ کار کے نفاذ کے لیے اپنے شراکت داروں اور اہم فریقین کے ساتھ کام جاری رکھیں گے۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

-30-

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 سے زائد لوگوں اور 75,000 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)